



دفتر مقام معظم رہبری
www.leader.ir

استفتائات کے جوابات / سگریٹ نوشی اور نشہ آور اشیاء کا استعمال

سگریٹ نوشی اور نشہ آور اشیاء کا استعمال

سگریٹ نوشی اور نشہ آور اشیاء کا استعمال

س ۱۳۹۸: عمومی مقامات اور سرکاری دفاتر میں دخانیات کے استعمال کا کیا حکم ہے؟

ج: اگر عمومی مقامات اور دفاتر کے داخلی قوانین کے خلاف ہو یا دوسروں کے لئے اذیت و آزار یا ضرر کا باعث ہو تو جائز نہیں ہے۔

س ۱۳۹۹: میرا بھائی منشیات کے استعمال کا عادی ہے اور منشیات کا سمگلر بھی ہے آیا مجھ پر واجب ہے کہ اس کی اطلاع متعلقہ ادارے کو دوں تاکہ اسے اس عمل سے روکا جاسکے؟

ج: آپ پر نہیں از منکر واجب ہے اور ضروری ہے کہ نشہ کو ترک کرنے میں اسکی مدد کریں اور اسی طرح اسے منشیات کی سمگلنگ، انکے فروخت کرنے اور پھیلانے سے منع کریں اور اگر متعلقہ ادارے کو اطلاع دینا مذکورہ امر میں اس کا معاون ہونا نہیں از منکر کا پیش خیمہ شمار ہو تو یہ واجب ہے۔

س ۱۴۰۰: آیا نسوار کا استعمال جائز ہے؟ اس کے عادی بننے کا کیا حکم ہے؟

ج: اگر قابل اعتنا ضرر رکھتا ہو تو اس کا استعمال اور اس کا عادی ہونا جائز نہیں ہے۔

س ۱۴۰۱: تنباکو کی خرید و فروخت اور استعمال کا کیا حکم ہے؟

ج: تنباکو کی خرید و فروخت اور استعمال بذات خود جائز ہے۔ ہاں اگر اس کے استعمال میں شخص کیلئے قابل اعتنا ضرر ہو تو اس کی خرید و فروخت اور استعمال جائز نہیں ہے۔

س ۱۴۰۲: آیا بھنگ پاک ہے؟ اور کیا اس کا استعمال کرنا حرام ہے؟

ج: بھنگ پاک ہے۔ لیکن اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔

س ۱۴۰۳: نشہ آور اشیاء جیسے بھنگ، چرس، افیون، بیروئین، مارفین، میری جونا... کے کھانے، پینے، کھینچنے، انجکشن لگانے یا حقنہ کرنے کے ذریعے استعمال کا کیا حکم ہے؟ اور ان کی خرید و فروخت اور انکے ذریعے کمانے کے دوسرے طریقوں جیسے انکا حمل و نقل، انکی حفاظت اور اسمگلنگ کا کیا حکم ہے؟

ج: منشیات کا استعمال اور ان سے استفادہ کرنا، انکے برے اثرات جیسے انکے استعمال کے قابل توجہ معاشرتی اور فردی مضرات کے پیش نظر حرام ہے اور اسی بنا پر ان کے حمل و نقل، انکو محفوظ کرنے اور انکی خرید و فروخت و غیرہ کے ذریعے کسب معاش کرنا بھی حرام ہے۔

س ۱۴۰۴: کیا منشیات کے استعمال سے مرض کا علاج کرنا جائز ہے؟ اور برفرض جواز آیا مطلقاً جائز ہے یا علاج کے اسی پر موقوف ہونے کی



دفتر مقام معظم رہبری
www.leader.ir

صورت میں جائز ہے ؟

ج: اگر مرض کا علاج کسی طرح منشیات کے استعمال پر موقوف ہو اور یہ امر قابل اطمینان ڈاکٹر کی تجویز سے انجام پائے تو اشکال نہیں رکھتا۔

س۱۴۰۵: خشخاش اور کوبی و غیرہ کہ جن سے افیون، بیروئن، مارفین، بہنگ اور کوکین وغیرہ حاصل کی جاتی ہیں کی کاشت اور دیکھ بھال کرنے کا کیا حکم ہے؟

ج: اس قسم کی فصلوں کی کاشت اور نگہداری جو اسلامی جمہوریہ (ایران) کے قانون کے خلاف ہے جائز نہیں ہے۔

س۱۴۰۶: منشیات کے تیار کرنے کا کیا حکم ہے چاہے اسے قدرتی اور طبیعی مواد سے تیار کیا جائے جیسے مارفین، بیروئن، بہنگ، میری جونا وغیرہ یا مصنوعی مواد سے جیسے S.D. او غیرہ ؟

ج: جائز نہیں ہے۔

س۱۴۰۷: آیا ایسا تنباکو استعمال کرنا جائز ہے جس پر بعض قسم کی شراب چھڑکی گئی ہو ؟ آیا اس کے دھوئیں کو سونگھنا جائز ہے؟

ج: اگر عرف کی نگاہ میں یہ تنباکو پینا شراب پینا نہ کہلائے اور نشہ آور نہ ہو اور قابل توجہ ضرر کا سبب نہ ہو تو جائز ہے۔ اگرچہ احوط اس کا ترک کرنا ہے۔

س۱۴۰۸: آیا دخانیات کے استعمال کو شروع کرنا حرام ہے ؟ اور اگر عادی شخص دخانیات کے استعمال کو چند ہفتوں یا اس سے زیادہ مدت تک ترک کردے تو ان کا دوبارہ استعمال کرنا حرام ہے؟

ج: دخانیات کے استعمال کے ضرر کے درجے کے مختلف ہونے سے اس کا حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے کلی طور پر اس مقدار میں دخانیات کا استعمال کہ جس سے بدن کو قابل توجہ ضرر پہنچتا ہے جائز نہیں ہے اور اگر انسان کو معلوم ہو کہ دخانیات کا استعمال شروع کرنے سے اس مرحلہ تک پہنچ جائے گا تو بھی جائز نہیں ہے۔

س۱۴۰۹: ایسے مال کا کیا حکم ہے جس کا بعینہ خود حرام ہونا معلوم ہو مثلاً نشہ آور اشیاء کی تجارت سے حاصل شدہ مال ؟ اور اگر اس کے مالک کا علم نہ ہو تو آیا یہ مال مجہول المالک کے حکم میں ہے؟ اور اگر مجہول المالک کے حکم میں ہو تو کیا حاکم شرعی یا اس کے وکیل عام کی اجازت سے اس میں تصرف کرنا جائز ہے؟

ج: عین مال کی حرمت کے علم کی صورت میں اگر انسان مال کے شرعی مالک کو جانتا ہو اگرچہ محدود افراد کے درمیان تو مال کو اس کے مالک تک پہنچانا واجب ہے ورنہ اسے اس کے شرعی مالک کی طرف سے فقرا کو صدقہ دے اور اگر حرام مال اس کے حلال مال سے مل گیا ہو اور اس کی مقدار اور شرعی مالک کو نہ جانتا ہو تو واجب ہے کہ اس کا خمس متولی خمس کو دے۔